

PAKISTAN DOMESTIC
SEASON 2019-20
14 SEP - 24 APR

CRICKET
CHAMPIONS
Inspiring the Nation



قائداعظم ٹرافی کے ابتدائی راؤنڈ میں تیسرے روز کا کھیل مکمل

- ناردرن کرکٹ ٹیم فالوآن کا شکار
- بلوچستان کی جانب سے امام الحق کی سنچری
- سنٹرل پنجاب کے عمر اکمل، اظہر عل اور احمد شہزاد کی نصف سنچریاں

لاہور، 16 ستمبر 2019ء:

ایبٹ آباد کرکٹ اسٹیڈیم میں جاری میچ کے تیسرے روز خیبرپختونخوا کے خلاف فالو آن کا شکار ہونے کے بعد ناردرن کرکٹ ٹیم نے 2 وکٹوں کے نقصان پر 105 رنز بنالیے جب کھیل ختم ہوا تو عمر امین اور روحیل نذیر کریز پر موجود تھے۔ ناردرن کرکٹ ٹیم کو اننگز کی شکست سے بچنے کے لیے مزید 159 رنز درکار ہیں۔ دوسری اننگز میں ناردرن کرکٹ ٹیم کے حیدر علی اور آفاق رحیم آؤٹ ہو کر پویلین واپس لوٹ چکے ہیں۔ اس سے قبل خیبرپختونخوا کی جانب سے 526 رنز کے جواب میں ناردرن کرکٹ ٹیم 262 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی تھی۔ فرسٹ کلاس کرکٹ میں ڈیبیو کرنے والے انڈر 19 کرکٹر حیدر علی کے 99 رنز بھی ناردرن کرکٹ ٹیم کو فالو آن سے نہ بچاسکے۔ خیبرپختونخوا کی جانب سے زویب خان اب تک میچ میں 4 اور جنید خان 3 کھلاڑیوں کو پویلین کی راہ دکھا چکے ہیں۔

سندھ اور بلوچستان کے درمیان قائداعظم ٹرافی کے پہلے راؤنڈ میچ کے تیسرے روز کھیل ختم ہونے تک بلوچستان نے سندھ کی پہلی اننگ کے اسکور 473 رنز کے جواب میں 191 رنز بنائے اور اس کے 3 کھلاڑی آؤٹ ہو چکے ہیں۔ امام الحق 111 اور عمران فرحت 16 رنز بنا کر کریز پر موجود ہیں۔ امام الحق نے 13 چوکوں کی مدد سے سنچری اسکور کی۔ عظیم گھمن 21، حسین طلعت 13 اور کپتان حارث سہیل 24 رنز بنا کر آؤٹ ہو چکے ہیں۔ سندھ کی جانب سے اسپنر کاشف بھٹی نے دن بھر نپی تلی باؤلنگ کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے 33 اوورز میں

61 رنز کے عوض 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ بلوچستان کی ٹیم اب بھی پہلی اننگز میں سندھ سے 282 رنز پیچھے ہے۔

قائد اعظم ٹرافی کے تیسرے روز قذافی اسٹیڈیم لاہور میں جاری میچ میں سدرن پنجاب کے 467 رنز کے تعاقب میں سنٹرل پنجاب کی ٹیم 5 وکٹوں کے نقصان پر 348 رنز بنا چکی ہے۔ عمر اکمل نے 118 گیندوں پر 89 رنز کی اننگز کھیلی۔ ان کی اننگز میں 10 چوکے اور 2 چھکے شامل تھے۔ سنٹرل پنجاب کے اوپنرز اظہر علی نے 73 جبکہ احمد شہزاد نے 63 رنز بنائے۔ دونوں کے درمیان 130 رنز کی شراکت قائم ہوئی۔ کھیل کے اختتام پر محمد سعد 41 اور فہیم اشرف 30 رنز بنا کر کریز پر موجود ہیں۔ سدرن پنجاب کی جانب سے راحت علی نے 3 اور عامر یامین نے 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔

– ENDS –

Media contact:

Ibrahim Badees Muhammad

Editor – Urdu Content

Media and Communications

E: ibrahim.badees@pcb.com.pk

M: +92 (0) 345 474 3486

W: www.pcb.com.pk